

(NRIs) غیر مقیم *۴ ین (Non Resident Indian) کے لئے ۷ ب مختلف ڈپوزٹ اسکیموں کی

- ۷ -

تفصیلات	فارن کر (غیر مقیم) اکاؤنٹ	غیر مقیم (خارجی) روپے	غیر مقیم آرڈینری
	بینک اسکیم (B-FCNR)	اکاؤنٹ اسکیم NRI اکاؤنٹ	اکاؤنٹ
۱	۲	۳	۴
اکاؤنٹ کون کھول سکتا ہے	NRI افراد/بگمہ دیش کے/ پاکستان قومیت/ ملکیت کو * پاکستان کو RBI کی سابقہ منظوری ضروری ہے۔	NRI افراد بگمہ دیش/ ہر رہنے والے شخص بگمہ دیشی * پاکستانی اور سابقہ OCBS کے لئے RBI کی سابقہ منظوری ضروری ہے۔	بگمہ دیشی پل کے علاوہ کسی بھی *۴ سے
جوائنٹ اکاؤنٹ \$	دو سے زیادہ غیر مقیم افراد	دو سے زیادہ غیر مقیم افراد	غیر مقیم افراد کے ساتھ جوائنٹ طور پر منعقد ہو سکتا ہے
* مزدگی	اجازت ہے	اجازت ہے	اجازت ہے
اکاؤنٹ کی قسم	صرف مڈپزٹ	سیو- /n- / \$ / سیو- /n- / \$ / ڈپزٹ	سیو- /n- / \$ / سیو- /n- / \$ / ڈپزٹ
ڈپزٹ کی مدت	۱- سال سے کم نہ * پنچ سال سے زیادہ مدت کے لیے	بینک کی مصلحت پر	مقیم اکاؤنٹ کے لیے جو بھی لاگو ہو
سودی شرح	کیپ کے ماتحت	کیپ کے ماتحت	مڈپزٹ کی سودی شرح کی تعیین کے کے لیے بینک آزاد ہیں

رہ: روپنک آف*۱-۱- عام آدی کیلئے

غیر مقیم اکاؤنٹ ہولڈر کے ذریعہ مقیم کے حق میں پور آف*۱ رنی کا استعمال	عام بینکنگ چینلوں کے توسط سے خود اکاؤنٹ ہولڈر کی ریٹیننس*۱ مقامی پیمنٹ کے نکالنے کے لیے پور آف*۱ رنی کا استعمال اکاؤنٹ کے سلسلہ میں ممنوع ہے	عام بینکنگ چینلوں کے توسط سے خود اکاؤنٹ ہولڈر کی ریٹیننس*۱ مقامی پیمنٹ کے نکالنے کے لیے پور آف*۱ رنی کا استعمال اکاؤنٹ کے سلسلہ میں ممنوع ہے	
لون (الف)*۱ میں (۱) اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے (۱۱) تھرڈ پٹی کے لیے	جامد ہے/اجازت ہے	جامد ہے/اجازت ہے	جامد ہے/اجازت ہے
بیرون ملک (۱) اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے (۱۱) تھرڈ پٹی کے لیے	(اجازت ہے) جامد ہے/اجازت ہے	(اجازت ہے) جامد ہے/اجازت ہے	(اجازت نہیں) جامد نہیں/اجازت نہیں
بیرونی کمرے*۱ میں قرضے (۱) اکاؤنٹ ہولڈر (۱۱) تھرڈ پٹی کے لیے	جامد نہیں	جامد نہیں	جامد نہیں

لون کا مقصد (الف) *۴ میں (۱) اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے	(۱) ذاتی غرض * تجارتی سر/میوں کے لئے کے لئے (II) *۴ بین فرموں/کمپنیوں کے کیپٹل کے لئے چندے کے ذریعہ عدم واپسی C دہرہ *۴ میں ڈلر سرمایہ کاری (III) *۴ میں اپنے رہا استعمال کے لئے فلیٹ/گھر کا حصول (مہر نی کر کے FEMAS کے فہر & ۲ کی عبارت ۹ کو دیکھئے۔	(۱) ذاتی غرض * تجارتی سر/میوں کے لئے کے لئے (II) *۴ بین فرموں/کمپنیوں کے کیپٹل کے لئے چندے کے ذریعہ عدم واپسی C دہرہ *۴ میں ڈلر سرمایہ کاری (III) *۴ میں اپنے رہا استعمال کے لئے فلیٹ/گھر کا حصول (مہر نی کر کے FEMAS کے فہر & ۲ کی عبارت ۹ کو دیکھئے۔	ذاتی ضرورت *۴ تجارتی مقصد
(II) تھرڈ پارٹی کے لیے (ب) بیرون ملک اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اور تھرڈ پارٹی کے لیے	فنڈ/غیر فنڈ F سہولیات ذاتی مقاصد کے لیے تجارت کے فروغ کے لیے، اے مہر نی FEMAS کے سیڈول نمبر ۲ کی عبارت نمبر ۹ کو دیکھیں۔ مخلصانہ مقاصد کے لیے فنڈ/ غیر فنڈ F سہولیات۔	فنڈ/غیر فنڈ F سہولیات ذاتی مقاصد کے لیے تجارت کے فروغ کے لیے، اے مہر نی FEMAS کے سیڈول نمبر ۲ کی عبارت نمبر ۹ کو دیکھیں۔ مخلصانہ مقاصد کے لیے فنڈ/ غیر فنڈ F سہولیات۔	ذاتی ضرورت *۴ تجارتی غرض جام نہیں

قرضوں کا استعمال دہرہ قرض دیئے *۴ کھیتی/شجر کاری کے مقصد سے *۴ غیر منقولہ تجارت میں سرمایہ کاری کے مقصد سے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ: (الف) *۴ کا مقیم شخص C پل *۴ بھٹو ۵ ن مدت/تجارت کرنے/پیشہ شروع کرے *۴ کسی ایسے مقصد سے کہ اس کو C پل *۴ بھٹو ۵ ن میں غیر معینہ مدت کے لیے ٹھہرے *۴ پل جائے، تو اس کا موجودہ اکاؤنٹ *۴ مقیم اکاؤنٹ *۴ ہی کی طرح جاری رہے گا۔ ایسا

اکاؤڈ \$ غیر مقیم ارڈنری اوپی اکاؤڈ (NRO) میں شمار نہیں ہوگا۔

(ب) ADS پل * بھٹوان میں مقیم کسی شخص کا NRE/FENR(B) اکاؤڈ \$ کھول سکتا ہے/قرار رکھ سکتا ہے *۔
کا شہری ہو *۔ *۱۱ اور جن (اصل) ہو بشرطیکہ ان اکاؤنٹس کے کھولنے کے لیے فنڈ فری فارن اکاؤنٹ میں بھیجے جا N۔
FCNR(B)/NRE اکاؤنٹس میں کھلا H سوڈ * منافع بھٹوان *۱۱ پل میں مقیم NRI اور PIO افراد کو صرف *۱۱ ین روپیوں
میں بھیجا جاسکتا ہے۔

(ج) اعلا 6- NOFEMA5/200-RB مورخہ ۳/مئی ۲۰۰۰ کے ضابطہ نمبر ۴ (۲) کی شرط کے اعتبار سے
ADS بھٹوان *۱۱ پل میں کسی مقیم شخص کے لیے Rs. account کھول سکتا ہے اور قرار رکھ سکتا ہے۔

(د) غیر مقیم ہندوستانیوں کے لیے د7 ب مختلف ڈپوزٹ اسکیموں سے متعلقہ ضابطوں کا اعلا 6 No. FEMA 5
مورخہ ۳/مئی ۲۰۰۰ اعلان کیا جا چکا ہے جو کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کیے جا h ہیں۔ متعلقہ اعلات اور AP (DIR SERIES) سرکلس
ہمارے ویب سائٹ \$ www.rbi.org.in میں فراہم کیے جا چکے ہیں اور مکمل تفصیل کے لیے انھیں دیکھا جاسکتا ہے۔